




Llywodraeth Cymru  
Welsh Government



ADDYSG CYMRU  
EDUCATION WALES  
cenhadeth ein cenedl | our national mission

ويلز کے لیے نئے  
نصاب کے لیے  
ایک گائیڈ



یہ گائیڈ متعدد زبانوں میں دستیاب ہے۔

# تعلیم بدل رہی ہے



آپ کے بچے کے اسکول میں، اساتذہ کے ذریعہ ایک نصاب تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ اس رینمائی کا استعمال کر رہے ہیں جو دوسرے اساتذہ نے بچوں کو سیکھنے کی منصوبہ بنندی میں مدد کے لیے لکھی ہے۔

نیا نصاب تمام بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے بچے کی حقیقی زندگی کے معنی کے ساتھ تخلیقی اسباق کے ساتھ تعاون کرے گا۔ یہ ان کی ضروریات کے لیے موزوں بوجا اور ان کی پوری صلاحیت تک پہنچنے میں ان کی مدد کرے گا۔

دنیا آج کل زیادہ جڑی بوئی ہے، اس لیے جو کچھ وہ سیکھتے ہیں وہ بھی زیادہ جڑا ہوا ہے۔ علم واقعی اہم ہے، اور انہیں وہ مہارتیں اور تجربات بھی فراہم کیے جائیں گے جن کی انہیں تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے لیے ضرورت ہے۔



دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں نئے افکار اور ٹیکنالوجی کے تخلیقی استعمال کی ضرورت ہے۔



ان چیلنجز سے نہٹنے کے لیے، ولیش حکومت یہ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ آپ کے بچے کے اندر وہ علم، ہنر اور تجربات موجود ہوں جو انہیں زندگی کا زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے درکار ہیں۔



ولیز کے لیے نصاب تیار کرنے کے لیے پورے ولیز کے اساتذہ اور ماہرین تعلیم مل کر کام کر رہے ہیں۔



آپ کا اسکول آپ کے بچے کی مدد کر رہا ہے:

- ایک پرچوش، سیکھنے کے قابل، پوری زندگی سیکھنے کے لیے تیار ایک کاروباری، تخلیقی معاون، زندگی اور کام میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار
- ایک اخلاقی، باخبر شہری، ولیز اور دنیا میں حصہ لینے کے لیے تیار، اور ایک
- صحت مند، پراعتماد فرد، معاشرے کے ایک قابل قدر رکن کے طور پر مکمل زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔
- ان کا نام نصاب کے 'چار مقاصد' ہے۔

# سیکھنے اور تجربے کے شعبہ جات

خواندگی، عددی اور ڈیجیٹل مہارتؤں کے ساتھ ساتھ، سیکھنے اور تجربے کے چھ شعبہ جات ہیں۔ آپ کا بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ ان شعبہ جات سے منسلک ہو گا۔



نصاب میں یہ بھی شامل ہے:

- انسانی حقوق
- تنوع اور فرق کا احترام کرنا
- کیریئر اور کام کی جگہ کے لیے تجربات اور مہارتیں
- مقامی، قومی اور بین الاقوامی سیاق و سباق کے بارے میں سیکھنا
- ترقی کے لحاظ سے مناسب تعلقات اور جنسی تعلیم۔

## سیکھنے اور تجربے کے شعبہ جات




ریاضی اور ہندسوں میں، آپ کا بچہ اعداد کے بارے میں اپنی فہم پیدا کرے گا اور ریاضی میں علامتیں استعمال کرے گا۔ وہ اشکال اور پیمائش کو دریافت کریں گے اور اعداد و شمار اور امکانیات کے بارے میں جانیں گے۔



پیومینٹیز میں وہ دنیا، معاشرے اور ماضی اور حال کے واقعات کے بارے میں سیکھیں گے۔ وہ ان چیلنجز اور موقع کی تلاش کریں گے جو ہمیں درپیش بیں، اور ہم مستقبل میں دنیا اور اس کے لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا اخلاقی اقدام کر سکتے ہیں۔



ایکسپریسیو آرٹس میں، آپ کا بچہ اپنی تخلیقی، فنکارانہ اور کارکردگی کی مہارتیں کو فروغ دینے کے لیے آرٹ، رقص، ڈرامہ، فلم اور ڈیجیٹل میڈیا اور موسیقی کو دریافت کرے گا۔



سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کا بچہ حیاتیات، کیمسٹری، طبیعتیات، کمپیوٹر سائنس اور ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھے گا۔ وہ ڈیزائن اور انجنئرنگ، جاندار چیزوں، مادہ، قوتون اور توانائی کے بارے میں اور کمپیوٹر کیسے کام کرتے ہیں اسے سیکھیں گے۔



لسانیات، خواندگی اور ابلاغ میں، آپ کا بچہ زبانوں کے بارے میں سیکھے گا۔ وہ ویلش، انگریزی اور دیگر زبانوں کو سمجھیں گے اور استعمال کریں گے۔ وہ ادب کا مطالعہ اور تخلیق کریں گے، اور بولی، تحریری یا بصری طریقوں سے بات چیت کریں گے۔ اس میں شاعری، ڈرامہ اور فلم شامل ہو سکتی ہے۔



صحت اور تندرستی ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کی نگہداشت کے بارے میں ہے جس میں جذباتی بیبود بھی شامل ہے۔ وہ صحت مند کہانے اور اچھے فیصلے کرنے، اثرات سے نمٹنے اور صحت مند تعلقات استوار کرنے کے بارے میں سیکھیں گے۔

# کس سے فرق پڑتا ہے

آپ کے بچے کی تعلیم ان چیزوں پر مرکوز ہونی چاہیے جو ان کے لیے اہم ہیں ابھی اور جب وہ بڑے ہوں گے اس وقت۔

سیکھنے اور تجربے کا ہر شعبہ ان اہم باتوں کے بیانات پر مشتمل ہے جو ہر عمر کے بچوں کے لیے سیکھنے کو شکل دیتے ہیں۔ یہ آپ کے بچے کو اس چیزوں کے بارے میں سوچنے میں مدد کرتے ہیں کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے اور موضوعات ایک دوسرے سے، کام سے اور زندگی سے کیسے جڑتے ہیں۔ وہ آپ کے بچے کی ہر سال پیش رفت کرنے میں تعاون کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی فہم اور مہارتوں کو بڑھاتے ہیں۔

## یہ کیسے کام کرتا ہے اس کی ایک مثال

سیکھنے اور تجربے کے سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں، اہم باتوں میں سے ایک بیان یہ ہے:

'بمارے ارد گرد کی دنیا جاندار چیزوں سے بھری ہوئی ہے جو بقا کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔'

جیسے جیسے آپ کا بچہ سیکھتا ہے، وہ اس کے بارے میں مختلف طریقوں سے سوچیں گے، مثلاً:

- میں جانتا ہوں کہ خطرے سے دوچار جانور ہیں۔
- میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا اثر ماحول، لوگوں اور جانوروں پر پڑتا ہے۔
- میں ماحولیات، انسانوں اور جانوروں پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے طریقوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔

آپ کے بچے کے لیے زندگی کے اہم ہنر سیکھنے کے مزید موقع موجود ہیں جو ان کی مدد کریں گے تاکہ:

- اپنے ارد گرد کی دنیا کی تعریف کریں

• سوالات پوچھیں، ثبوت دیکھیں، فیصلے کریں اور مسائل حل کریں

• دریافت کریں، بات چیت کریں، منصوبے بنائیں اور حل تلاش کریں

• لچک پیدا کریں اور اپنے فلاح و بہبود کا نظم کریں

• دوسروں کے ساتھ کام کریں اور

• اپنے مستقبل کے کیریئر کے بارے میں سیکھنے، کام اور انٹرپرینیورشپ میں بامعنی تجربات کی بنیاد پر فیصلے کریں۔

# اس طریقے سے سیکھنا جو آپ کے بچے کے لیے کارآمد ہو

ایسے وقت ہو سکتے ہیں جب وہ:

- تیزی سے آگے بڑھتے ہیں یا
- سست ہو جاتے ہیں یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ کسی موضوع کو سمجھتے ہیں یا اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز دریافت کرتے ہیں جس میں ان کی دلچسپی ہو۔

سیکھنا ہمیشہ ان کی عمر سے منسلک نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی طریقے سے، یا سب کے لیے ایک ہی وقت میں نہیں ہوگا۔

نیا نصاب آپ کے بچے کے علم، ہنر اور تجربات کو فروغ دیتا ہے۔ وہ اس طرح آگے بڑھیں گے:

- وہ مزید سیکھتے ہیں
- چیزوں کے بارے میں ان کی فہم گہری بوتی جاتی ہے
- ان کی مواصلات کی مہارتیں بڑھتی ہیں اور
- ان کی مہارتیں میں بپتری آتی ہے۔

## تشخیص کے

اور اپنے استاد کی مدد کریں:

- انہیں چیلنجر کرنے کے طریقے تلاش کریں اور
- دیکھیں کہ طلباء کتنا اچھا کر رہے ہیں۔



اسکول یہ یقینی بنانے کے لیے بھی آپ کے ساتھ کام کرے گا کہ آپ کے بچے کو آگے بڑھنے کے لیے درکار مدد حاصل ہے۔

تشخیص ہر روز آپ کے بچے کی تعلیم کا حصہ ہوگا۔

وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر یہ سمجھنے کے لیے کام کریں گے کہ وہ کتنا اچھا کر رہے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے یہ ضروری ہے:

- دیکھیں کہ وہ اپنی تعلیم میں کہاں ہیں
- اپنے اگلے سیکھنے کے مراحل کی منصوبہ بندی کریں
- کسی بھی مسئلے یا اضافی مدد کی ضرورت کی نشاندہی کریں



# مستقبل کے لیے باصلاحیت

مالی صلاحیت، کیریئر کی ترقی، مساوات اور تنوع اور ابتدائی طبی امداد۔

تشخیص کی مختلف اقسام بھی ہوں گی، مثال کے طور پر، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔

آپ کا بچہ 14-16 سال کی عمر کے درمیان جن قابلیتوں کو پڑھتا ہے جو نئے نصاب کے ساتھ فٹ ہو جائیں گی۔

مستقبل میں، اب ہمارے پاس جو قابلیتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر مضامین بھی ہو سکتے ہیں جیسے کام کی دنیا،



## تیار ہونا

نیا نصاب ستمبر 2022 سے شروع ہوتا ہے اور 2026/27 تعلیمی سال تک تمام ثانوی اسکول کے طلباء کے لیے استعمال کیا جائے گا

آپ کے اسکول کے نصاب کو تیار کرنے میں مدد کرنے کے آپ، آپ کے بچے اور کمیونٹی کے لیے موقع موجود ہیں۔

اسکول اور گھر دونوں جگہ مل کر کام کرنے والا ہر شخص آپ کے بچے کو بہترین تعلیم حاصل کرنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے میں مدد کرے گا۔

نئے نصاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، اپنے بچے کے اساتذہ سے پوچھیں۔



آپ مزید معلومات تک بھی رسمائی حاصل کر سکتے ہیں

@WG\_Education  
@edubeginsathome

educationwales  
beginsathome



نصاب میں ویلز اور بی ایس ایل کے لیے نصاب کے بارے میں بچوں، نوجوانوں اور خاندانوں کے لیے ایک برطانوی علامتی زبان (بی ایس ایل) کا ویڈیو ایجوکیشن ویلز کے یوٹیوب چینل پر دستیاب ہے۔

